

Urdu

کرونا وائرس کی وجہ سے غیر حاضری:

والدین اور نگہداشت کرنے والوں کیلئے ایک فوری ہدایت نامہ

آئیے ڈربی کیلئے کچھ اچھا کریں۔

سکول کو واپسی	کارروائی کی ضرورت ہے۔۔۔	کیا کرنا ہے اگر۔۔۔
<p>جب بچہ دوبارہ صحت مند ہو جائے۔۔۔ بچہ سکول واپس آسکتا ہے بشرطیکہ بچے کو واپسی سے پہلے ۳۸ گھنٹوں سے بخار نہ ہوا ہو، اور بلکل تندرست محسوس کر رہا ہو۔</p>	<p>بچے کو سکول سے چھٹی کرانی چاہیے۔ بچے کا طبی معائنہ یا وائرس کی تشخیص کرانا چاہیے۔ گھر کے تمام افراد کو سب سے الگ ہو کر تنہائی میں جانا چاہیے۔ فوراً سکول انتظامیہ کو مطلع کرنا چاہیے۔۔۔</p>	<p>میرے بچے میں کووڈ ۱۹ (کرونا وائرس) کی علامات موجود ہیں۔</p>
<p>دس روز بعد، جب بچہ خود کو تندرست محسوس کرے اور ۳۸ گھنٹوں سے بخار بھی نہ ہوا ہو وہ دس روز بعد سکول آسکتے ہیں چاہے ان کو</p>	<p>بچے کو سکول نہیں آنا چاہیے۔ بچے میں وائرس کے تشخیص ہونے یا علامات کے ظہور ہونے کے بعد تمام افراد سے کم از کم (۱۰) دس روز کیلئے علیحدگی اختیار کرنی چاہیے۔</p>	<p>میرے بچے کی کووڈ ۱۹ کی ٹیسٹ یا تشخیص مثبت آئی ہے۔</p>

<p>کھانسی ہو یا سونگھنے اور چکھنے کی صلاحیت واپس نہ آئی ہو۔ وائرس ختم ہونے کے بعد بھی یہ علامات کئی ہفتوں تک موجود ہو سکتے ہیں۔</p>	<p>سکول انتظامیہ کو وائرس کے تشخیص ہونے کی صورت میں فوراً اطلاع کرنی چاہیے۔ بچے میں وائرس کے تشخیص ہونے یا علامات کے ظہور ہونے کے بعد، گھر کے تمام افراد خود کو (۱۴) چودہ روز کیلے ، چاہے اس دوران کسی کی تشخیص منفی ہو، تو بھی سب سے الگ ہو کر تنہائی اختیار کرنا چاہیے</p>	
<p>جب گھر کے فرد کے ٹیسٹ کا نتیجہ منفی آئے اور بچے میں کووڈ ۱۹ کی علامات موجود نہ ہوں۔</p>	<p>بچے کو سکول نہیں آنا چاہیے۔ گھر کے جس فرد میں کرونا کی علامات موجود ہوں اسے ٹیسٹ کرانا چاہیے۔ گھر کے تمام افراد ٹیسٹ کا نتیجہ آنے تک خود سے علیحدگی اختیار کریں۔ ٹیسٹ نتائج سے مطعلق فوراً سکول انتظامیہ کو مطلع کرنا چاہیے۔۔۔</p>	<p>میرے گھر میں کسی فرد کو کووڈ ۱۹ (کورونا وائرس) کی علامات موجود ہیں۔</p>
<p>جب بچے نے ۱۴ روز کی علیحدگی یا تنہائی مکمل کر لی ہو، چاہے</p>	<p>بچے کو سکول نہیں آنا چاہیے۔ گھر کے تمام افراد خود کو (۱۴) چودہ روز کیلے ،</p>	<p>میرے گھر میں کسی فرد کا کووڈ</p>

<p>اس دوران بچے کا ٹیسٹ منفی آیا ہو۔</p>	<p>چاہے اس دوران کسی کی تشخیص یا ٹیسٹ منفی ہو، تو بھی سب سے الگ ہو کر تنہائی اختیار کرنا چاہیے</p>	<p>۱۹ (کورونا وائرس) کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔۔</p>
<p>جب بچے نے ۱۴ روز کی علیحدگی یا تنہائی مکمل کر لی ہو، چاہے اس دوران بچے کا ٹیسٹ منفی آیا ہو۔</p>	<p>بچے کو سکول نہیں آنا چاہیے۔ بچے کو خود (۱۴) چودہ روز کیلئے (این ایچ ایس ٹیسٹ اینڈ ٹریس کے مشورے کے مطابق) سب سے الگ ہو کر تنہائی اختیار کرنا چاہیے، چاہے اس دوران اس کی تشخیص یا ٹیسٹ منفی ہو تو بھی۔ گھر کے باقی افراد کو دوسروں سے الگ ہو کر تنہائی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، اگر وہ خود بھی قریبی رابطہ میں نہ آیا ہو۔</p>	<p>این ایچ ایس ٹیسٹ اینڈ ٹریس نے میرے بچے کو کووڈ ۱۹ (کورونا وائرس) کے یقینی مریض کے ساتھ قریبی رابطہ میں رہنے کی نشاندہی کی ہے۔۔</p>
<p>جب ۱۴ روز قرنطینہ کی مدت مکمل کر لی ہو، چاہے اس دوران سب کا ٹیسٹ منفی آیا ہو۔</p>	<p>ٹرم کے دوران بغیر اجازت چھٹی نہیں کرنی ہے۔ سفر شروع کرتے وقت ایف سی او کی ہدایات اور قرنطینہ کی ضرورت کو مد</p>	<p>ہم، میرے بچے نے سفر کیا ہے اس لیے قرنطینہ کی مدت پوری کرنے کیلئے تنہائی اختیار کرنی ہے۔۔</p>

	<p>نظر رکھیں۔۔</p> <p>حاضری پالیسی کی مطابق سکول کو معلومات فراہم کریں۔۔</p> <p>منزل سے واپسی پر جہاں قرنطینہ کی ضرورت ہو: بچے کو سکول نہیں آنا چاہیے۔</p> <p>گھر کے تمام افراد خود کو (۱۲) چودہ روز کیلے، چاہے اس دوران کسی کی تشخیص یا ٹیسٹ منفی ہو، تو بھی سب سے الگ ہو کر تنہائی اختیار کرنا چاہیے</p>	
<p>جب سکول یا کوئی ادارہ آپ کو آگاہی دے کہ پابندیاں ختم کردی گئیں اور آپ کا بچہ سکول آسکتا ہے۔</p>	<p>بچے کو سکول نہیں آنا چاہیے۔</p> <p>حاضری افسر یا پیسٹورل ٹیم کے مشورے کی مطابق سکول سے رابطہ کریں۔۔</p> <p>بچہ حفاظت یا نگہداشت میں رہے تاوقت آپ کو اطلاع دی جائے کہ پابندیاں ختم کردی گئیں یا حفاظتی اقدامات میں وقفہ آجائے۔۔</p>	<p>ہمیں طبی یا سرکاری ذرائع سے بچے کو دوبارہ حفاظت کرنے کا ہدایت نامہ یا مشورہ موصول ہوا ہے۔۔</p>
<p>جب آپ کے حالات کی مطابق اوپری شرائط پوری ہوں۔۔</p>	<p>صرف وہ شخص ٹیسٹ کرائے جس میں علامات موجود ہوں، -</p>	<p>مجھے سمجھ نہیں آ رہا کسے</p>

	جس شخص میں علامات موجود نہ ہوں، بہتر ہے کہ وہ ٹیسٹ نہ کرائے، چاہے وہ مریض سے قریبی تعلق میں آیا ہو۔	کووڈ ۱۹ (کرونا وائرس) کا ٹیسٹ کرانا چاہیے
--	---	---

**If anyone in your household has symptoms*,
book a free COVID-19 test at nhs.uk/coronavirus
or call [119](https://www.nhs.uk/119)**

For further information visit [gov.uk/backtoschool](https://www.gov.uk/backtoschool)